

# خذ عقيدتك

من الكتاب والسنة الصحيحة

FUNA ENZIKIRIZA ENTUUFU  
OKUVA MU QUR'ANI NE HADIITHI ENTUUFU

باللغة الأوغندية



FIRST EDITION

الطبعة الأولى



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء

خذ عقيدتك

من الكتاب والسنة الصحيحة لمحمد بن جميل زينو.

**FUNA ENZIKIRIZA ENTUUFU  
OKUVA MU QUR'ANI NE HADIITHI ENTUUFU  
KYAWANDIIKIBWA MUHAMMADI BUN JAMIIL  
ZAYINU**

ترجمة: عبدالحكيم أوس ماكاي  
راجعه: الشيخ فاروق عبدالنور انتاندا  
والشيخ عبدالرحمن إبراهيم موكيسا

**KIVVUUNUDDWA  
ABDUL HAKIIM AUSI MAKAYI**

**KIKAKASIDDWA  
SHK: FAROOQ ABDULNOOR NTANDA  
NE SHK: ABDULRAHMAANI IBRAHIM MUKISA**



جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة حريملاء

ح) جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة حرملاء، ١٤٤٤هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

ماكاي ، عبدالحكيم أوس  
خذ عقيدتك من الكتاب والسنة الصحيحة لمحمد جميل زينو . باللغة الأوغندية  
عبدالحكيم أوس ماكاي . - حرملاء ، ١٤٤٤هـ  
٢٢ ص ؛ ١٢×١٧.سم

ردمك: ٣-٢٧٧٠-٤-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

١٤٤٤/٤٠٣٠

١- العقيدة الإسلامية أ.العنوان  
ديوي ٢٤٠

رقم الإيداع: ١٤٤٤/٤٠٣٠  
ردمك: ٣-٢٧٧٠-٤-٠٣-٦٠٣-٩٧٨

✉ Jaliathrml@gmail.com

📞 966505118354



SA 5080000226608010026266

SA 2580000226608010900007

SA 5605000068202980101000

حساب الجمعية في مصرف الراجحي

حساب الوقف الدعوي في مصرف الراجحي

حساب الجمعية في مصرف الإنماء



## ENNYANJULA

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Amatendo amajjuvu ga Allah Omutonzi w'ebitonde byonna, tumutendereza era gwe tusaba obuyambi era gwe tusaba okutusonyiwa, oyo yenna gw'aba Alungamizza ku kkubo eggolokofu, tewali asobola ku mubuza, nabwekityo gw'abuza (ava kubulunggamu), teri asobola kumuzza ku kkubo ggolokofu. Nkakasa mu mutima gwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah omu yekka, tagattibwaako kintu kyonna mu ebyo ebye yawulidde ye, era nkakasa nti Nabbi Muhammadi muddu we era mubaka we.

Ab'oluganda ekitabo kino kirimu ebibuuzo ebikulu ebikwaata kunzikiriza nga byaddibwaamu wamu n'okulaga obujulizi okuva mu Qur'ani ne mu Hadiithi za Nabbi Muhammadi (s.a.w), omusomi atebenkere bulungi n'okwanukula okuba kuddiddwaamu, kubanga enzikiriza y'obusiraamu y'ensibuko y'okwesiima kuno kungsi ne kulunaku lwenkomerero.

Katonda Omutonzi owa waggulu musaba ekitabo kino akifuule eky'omugaso eri abasiraamu, era omulimu guno agufuule omutuufu nga ekigendererwa Allah Atusiime kunkomerero.

**N.B:** Ntegeeza Omusomi wange nti Ebibuuzo bino, tukozesezza Ennyukuta zino wammanga, okutegeeza amakulu gano:

**E: EKIBUUZO**

**O: OKWANUKULA**

## EBBANJA ALLAH LY'ABANJA ABADDUBE

<b>E:1</b>	<b>E:1 Lwaki Allah Yatutonda?</b>
<b>O:1</b>	<p>Allah Yatutonda lwa kumusinza omu Yekka nga tetumugattako kintu kirala kyonna. Olw'ekigambo kya Allah ekigamba:</p> <p style="text-align: center;">لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [سورة الذاريات: 56].</p> <p>(Saatonda Majinni n'abantu (ku nkolera kirala kyonna) okugyako ku lwa kunsinza (ate nga n'omugaso gw'okunsinza gudda gye biri). N'ekigambo kya Nabbi Muhammadi (s.a.w) ekigamba:</p> <p style="text-align: center;">لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: (حَقَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا) متفق عليه.</p> <p>(Ebbanja Allah ly'abanja Abaddu be kumusinza nga tebamugattako kintu kirala kyonna mu kusinza).</p>
<b>E:2</b>	<b>Okusinza (Ibaada) ky'ekki?</b>
<b>O:2</b>	<p>Okusinza linnya eribuna ku buli kyonna Allah ky'ayagala mu bigambo ne mu bikolwa ebyolwaatu ne bye kyaama, okugeza, okusaala esswala, okusala ebisolo n'ebiringa ebyo. Allah yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قَالَ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الأنعام: 162].</p> <p>(Gamba nti: Mazima okusaala kwange n'okusala kwange n'obulamu bwange n'okufa kwange, (Byonna) bya Katonda Omulezi w'ebitonde). Ate Nabbi (s.a.w) yagamba nti Allah Y'agamaba:</p> <p style="text-align: center;">وقال النبي ﷺ: (وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه) حديث قدي رواه البخاري.</p> <p>(Omuddu wange tasembera gyendi ng'asinza, namulimu nga ngwagala nnyo okwenkanankana n'ogwo gwennamulaalikako</p>

E:3	Tusinza tutya Allah, nga bw'ayagala oba nga bwe twagala?
O:3	<p>Tumusinza nga bwe yatulagira era nga bw'ayagala Yye Kennyini oba nga Nabbi (s.a.w) bwe yasomesa, Allah Y'agamba</p> <p>قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا ءَعْمَلَكُمْ﴾ [سورة محمد: 33].</p> <p>(Abange mmwe abakkiriza! Mugondere Allah era mugondere n'omubakawe, era temwonoonga emirimu gyammwe nga mugikola nga bw'ayagala so si nga bwe twagala). Nabbi (s.a.w) n'agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) - أي: غير مقبول - رواه مسلم.</p> <p>(Omuntu yenna akola omulimu gwonna ogw'okusinza, nga teguliiko njigiriza yaffe (teguli kunkola ya busiraamu), gumuddizibwa</p>

E:4	Abaffe tulina okusinza Allah ng'okusinza kwaffe kuzimbiddwa ku kumutya, wamu n'okusuubira empeera gyaali (okuba n'essuubi)?
O:4	<p>Iyye, kituufu Allah tumusinza bwe tutyo, Allah yagamba nga atenda abakkirizaabe:</p> <p>قال تعالى وهو يصف المؤمنين ﴿...يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا..﴾ [سورة السجدة: 16].</p> <p>(...Abakkiriza basinza Omulezi wabwe nga bajjudde okutya n'okusuubira empeera gyaali...). Ate Nabbi (s.a.w) n'agamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (أَسْأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، وَأَعُوذُ بِهِ مِنَ النَّارِ) صحيح رواه أبو داود.</p> <p>(Nasaba Allah ampe ejjana, era n'emmusaba ankingiriza omuliro).</p>
E:5	<b>Okulongoosa mu kusinza kyekki?</b>
O:5	<p>Okweyisa obulungi: Kwe kusinza Allah nga okimanyi nti akulaba era kyonna ky'okola nga okikola ku lulwe. Allah y'agamba:</p> <p>قال تعالى : ﴿الَّذِي يَرِنُّكَ حِينَ تَقُومُ﴾ ﴿٢٧﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السَّجِدِينَ ﴿٢١٩﴾ سورة الشعراء: [122 و 123].</p> <p>(Oyo akulaba mu kiseera ng'oyimiridde (osaala). (Era alaba) n'okyuukakyuuka kwo (nga oli) ow'omu bavunnama (abasaala). Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ : (الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك) رواه مسلم.</p> <p>(Okweyisa obulungi kwe kusinza Allah nga olinga nga amulaba bw'oba tomulaba, mazima Yye akulaba).</p>

E:6	<p><b>Emiteeko gya Tawuhiidi (okwawula Allah) n'emigaso gy Lwaki Allah yatuma Ababaka Bannabbi?</b></p>
O:6	<p>Yabatuma baggye n'okusinza kw'ebitali Ye nga bakoowoole ebitonde byonna okusinza Allah yekka nga tebamugattako kirala kyonna (tebasamira n'ebirala ebiringa ekyo), Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى : ﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ﴾ [سورة النحل: 36].</p> <p>(Era mazima Twatumanga mu buli kibiina omubaka (abalagire nti:) Musinza Katonda, mwekeke (okusinza) eby'obulimba. Ne mu bo mulimu oyo Katonda gwe yalunngamya, era ne mu bo mulimu oyo gwe bwakakatako obubuze. Kale mutambule mu nsi mutunuulire engeri bwe yali enkomerero y'abaalimbisa (Ababaka).</p> <p>Era Nabbi n'agamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (والأنبياء إخوةٌ ودينهم واحد) الحديث متفق عليه.</p> <p>(Ne Bannabbi baluganda, N'eddiini yabwe y'emu (era bwe Busiraamu).</p>



E:7	<b>Okwawula Allah mu bulezi bwe kyekki?</b>
O:7	<p>O:7 Kwe ku mwawula mu bikolwa bye nga tukkiriza nti yabikola yekka awatali kiyambi n'omu, gamba nga okutonda, okutonnyesa enkuba, okuwa obuggaga n'ebirala, era mazima ddala ebitonde byonna yabirinako obuyinza. Allah yagamba:</p> <p style="text-align: right;">قال تعالى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة:1].</p> <p>(Amatendo amajjuvu ga Allah, Omulezi w'ebitonde (Omutonzi wabyo, Omufuzi wabyo, Omuteesiteesi w'empangaala yabyo). Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p style="text-align: right;">قال رسول الله ﷺ: (أنت رب السموات والأرض).</p> <p>(Ggwe wekka OMulezi w'ebitonde byonna ebiri mu maggulu Omusanvu ne munsu Omusanvu).</p>

E:8

## Okwawula Allah mu kusinzibwa kyekki?

O:8 Kwe kumwawula mu buli kyonna ekiyitibwa okusinza, gamaba nga okumusaba ebyetaago, okusala ebisolo ku lulwe, okusaba obugagga n'ebirala, okweyama oba okwetama nnaziri, bino byonna nga tubizza gyaali yekka awatali kugenda mu masabo wadde okweraguza. Allah Y'agamba kunsonga eno:

قال تعالى: ﴿وَالْأَلْهَمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة البقرة: {163}

(Mukimanye nti Omusinzibwa wammwe ali omu yekka, tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyaako Ye Omusaasizi Ow'ekisa ekingi). Nabbi (s.a.w) y'agamba swahaba ayitibwa Muadhi bun Jabali okugenda e Yamani agambe abantu baayo bwatuukayo:

قال رسول الله ﷺ لمعاذ بن جبل لما أرسله الى اليمن: (فليكن أوَّل ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله) متفق عليه وفي رواية البخاري (إلى أن يُوحِّدوا الله).

(Ky'oba osooka okubagamba nga otuuseeyo, Laa Ilaaha illa Allah (Baatule wamu n'okukkiriza nti tewali kisinzibwa mu mazima okugyako Allah, bamwaawule mu kusinzibwa kwe, tebasamira, tebeeraguza wadde okusaba ekintu kyonna mu bitonde byonna).

E:9

## Okwawula Allah mu mannya ge n'ebitendo bye kitegeeza ki?

O:9

Kwe kukkiriza kyonna Allah kye yetenda nakyo mu kitabo kye Qurani, oba Omubaka we Muhammadi kye yamutenda nakyo mu bigambo bye ebituufu (Hadiithi entuufu) mu butuufu bwabyo, nga okutenda okwo tekuliimu kukuusa makulu gakwo, temuliimu kugaana makulu gakwo wadde okufaananya ebitendo bye n'ebitendo by'ebitonde. Eky'okulabirako, Allah yetenda mu Qur'ani nti

atebenkedde ku Namulondo ye okutebenkera okwekitiibwa okujjuvu okweyawulidde Ye yekka. Ekirala Nabbi (s.a.w) y'agamba nti Allah akka wansi ku ggulu erisooka mu kitundu ky'ekiro ekisembayo, era ffe bwe tumutenda n'ekyo tugamba nti Allah akka olukka olweyawulidde Ye Yekka. Ekirala Allah yetenda mu Qur'ani nti alina omukono, awonno tumutenda n'ekitendo ky'okuba nti alina Omukono ogweyawulidde ye Yekka nga tegufaanana nakintu kyonna mu bitonde bye. Kunsonga eno Allah y'agamba.

قال تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [سورة الشورى: 11].

(Tewali kintu (na kimu) kimufaanana mu mannya ge n'ebitendo bye; Naye Awulira oluwulira era Alaba olulaba okwenkomeredde). Mu bigambo bye Nabbi Muhammadi (s.a.w) yagamba bwaati:

قال رسول الله ﷺ: (يَنْزِلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا يُنْزِلُ نَزْوًا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ، لَا يَشْبَهُ أَحَدًا مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ) رواه مسلم.

Allah akka buli kiro ku ggulu erisooka. (Akka Allah okukka) okujjuvu okwekitiibwa okweyawulidde Ye yekka, nga tekufaanana (kukka kwa kitonde kyonna mu bitonde bye

E:10	<b>Abaffe Katonda Aliruddawa)?</b>
O:10	<p>Katonda ali waggulu w'amagulu omusanvu ku Namulondo Ye, Allah y'agamba:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [سورة طه: 5].</p> <p>Katonda Omusaasizi, Atebenkedde ku Al-Arushu ye wa ggulu (Ku Namulondo Ye, olutebenkera olujjuvu olusaanidde Ye olw'ekitiibwa).</p>
E:11	<b>Abaffe Katonda Ali wamu naffe abantu (ebitonde)?</b>
O:11	<p>Allah Ali wamu naffe nga tutegeeza okuwulira kwe n'okulaba kwe wamu n'okumanya kwe naye Ye Ali waggulu wa magulu omusanvu, Allah y'agamba Musa ne Haruna:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ [سورة طه: 46].</p> <p>((Katonda) n'agamba nti: Temutya. Mazima Nze Ndi wamu nammwe, Mpulira era Ndaba (buli kintu). Nabbi (s.a.w) n'agamba:</p> <p style="text-align: center;">قال النبي ﷺ: (إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ) رواه مسلم.</p> <p>(Mazima mukimanye nti Allah gwe musaba Awulira, era okuwulira kwe kuli kumpi nnyo, Ali wamu nammwe mu mbeera eyo)</p>

E:12	<p><b>Mugaso ki omukulu oguli mu kwaawula Allah mu kusinzibwaakwe (Twuhiidi)?</b></p>
O:12	<p>Omugaso gwa Tawuhiidi kwe kuwona ebibonerezo bya Allah ku lunaku lw'enkomerero, n'okufuna obulunngamu Mu bulamu by'ensi eno wamu n'okusonyiyibwa ebiba by'atusobako mu kunyiiza Katonda Ow'ekitiibwa kunsonga eno Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اٰيْمَنَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ﴾ [سورة الأنعام: 82].</p> <p>(Abo abakkiriza ne batatabula bukkiriza bwabwe na bulyazaamaanyi, abo be balina okuwona (era) nabo be balunngamu). Obulyazaamaanyi obutegezebwa mu ayati eno ye Shiriki (okugeza ng'okusamira). Ate Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>قال رسول الله ﷺ: (حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئاً) متفق عليه.</p> <p>(Obuvunanyizibwa bwa Allah eri ebitonde bye, butabonereza yenna ataamugattako kintu kirala kyonna mu kusinzibwa kwe).</p> <p style="text-align: center;"><b>Obukwakkulizo bwa Ibaada (okusinza).</b></p>
E:13	<p><b>Bwebuliwa obukwakkulizo bwa Ibaada?</b></p>
O:13	<p>1. Okukkiriza Allah wamu n'okumwawula mu kusinzibwa kwe, Allah y'agamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا﴾ [سورة الكهف 107].</p>

(Mazima abo abakkiriza ne bakola emirimu emirungi, yali Ejjana Al-Firdausi ku bo nga kye kifo kyabwe (mwe balitebenkerera).

Nabbi (s.a.w) yagamba:

قال النبي ﷺ: (قل آمنت بالله فاستقم) رواه مسلم.

(Gamba nti nzikirizza Allah, oluvannyuma otereere ku mateeka ga Allah).

2. Okukola omulimu ku lwa Allah nga teguliimu kabandabe

oba kabampulire, Allah yagamba:

قال تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ [سورة الزمر: 2].

Musinze Allah nga mukola emirimu ku lu lwe, era mugenderera ku siimisa Ye mu ddiini).

3. Omulimu ogwo gulina kukolebwa nga Nabbi bwe yayigiriza oba bwe yasomesa. Allah Yagamba:

قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 7].

(N'ekyo kyonna omubaka (kye yabaleetera oba ky'abawa), mukitwalenga N'ekyo ky'abagaananga, mukirekengayo (mukyewalenga). Mutyenga Allah. Era mumanye alina ebibonerezo ebityirivu). Nabbi (s.a.w) n'agamba:

قال النبي ﷺ: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) (متفق عليه).

Yenna akola omulimu gwonna nga teguliiko njigiriza yaffe) (teguli kunkola ya busiraamu), gumuddizibwa).

## SHIRIKI OMUNENE

E:1 **Zambi ki erisinga obunene ewa Allah?**

O:1 Ezambi erisinga obunene n'obubi mu maaso ga Allah, kwe kumugattako n'ekintu ekirala nga tumusinza, oba okusinza ekintu ekirala, nga abagenda mu iluminati nga basinza era ne basaba emizimu na Majjini, abasamira, abagamba nti yesu ye Katonda oba mwana wa Katonda n'ebirala. Allah Yagamba:

قال تعالى: ﴿وَأَذَّ قَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ وَيَبْحَثُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة لقمان: 13].

(Era (jjukira) mu kiseera Luqmaan bwe yagamba mutabani we, nga naye amubuulirira: Owange Mutabani wange! Togattanga ku Katonda ekintu ekirala mu kusinzibwa kwe. Mazima okugatta ku Katonda ekintu ekirala bulyazaamaanyi obunene (obw'ensusso).

سُئِلَ - رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (أَيُّ الذَّنْبِ عِنْدَ اللَّهِ أَكْبَرُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدَاءً وَهُوَ خَلَقَكَ) متفق عليه.

Nabbi (s.a.w) bwe yabuuzibwa ekyonoono ekisinga obubiewa Katonda, yayanukula n'agamba: (Kwe kugatta kuKatonda ekintu ekirala ekitali Ye ng'ate Yakutonda). Gambanga okusaba emikisa ew'ekitonde ekirala n'olekawoKatonda wo ng'ate yakutonda, n'okusaba okutasibwaokuva eri abafu oba ng'ate tebaliwo.

E:2	<b>Shiriki omunene y'aliwa?</b>
O:2	<p>Shiriki omunene kwe kuzinza n'okusaba ekitali Katonda owa waggulu Allah ow'ekitiibwa, gamba nga okusaba ekyetaago oba emikisa ew'abantu aberanga ku marediyo ne ttivi nti bagaba emikisa, awonno oba ogudde mu shiriki omunene, kubanga Allah Yennannyini kugaba bintu bino. Waliwo n'abantu abasaba amalaalo g'abajajja bwe abaafa oba abalala bonna nga babasaba obuyambi n'okujjawo ebizibu byabwe, n'ono aba shiriki omunene. Allah yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿وَأَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ [سورة النساء: 36].</p> <p>(Musinze Allah era temumugattako kirala kyonna).</p>



E:3	Abaffe abantu b'omulembe guno ogwa Nabbi Muhammadi (s.a.w) basobola okugwa mushiriki?
O:3	<p>Iyye, abantu abamu mu beeyita abagoberezi ba Nabbi Muhammadi (s.a.w) basobola okukola oba okugwa mu shiriki. kunsonga eno Allah Y'agamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ [سورة يوسف: 106].</p> <p>(Abasinga obungi mu bantu tebakkiriza Katonda okugyako nga bamugattako mu kusinzibwaakwe). Ate Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>وقال رسول الله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ، وحتى يُعبدوا الأوثان) صحيح رواه الترمذي.</p> <p>(Enkomerero terituuka okugyako ebimu ku bika by'omulembe guno byeegasse ku Bashiriku, okugeza ng'abasamize, abelaguza n'abafaanana ng'abo).</p>

## Egimu ku miteeko gya Shiriki Omunene

E:4	<p><b>Kiramulwa kitya okukoowoola n'okusaba amalaalo g'abantu abaafa, n'okusaba ebintu ebitalabika?</b></p>
O:4	<p>Okukoowoola n'okusaba ebintu bino Shiriki omunene, era abikola aba agasse ku Allah n'ekintu ekirala, Allah Yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: 106].</p> <p>(Era tosabanga ekyo ekitali Katonda – Ekyo ekitasobola ku kugasa wadde okukukosa, bw'onooba nga okikoze ekyo mazima ggwe ojja kuba ow'omu balyazaamaanyi). Abalyazaamaanyi be bashiriku abategeezebwa mu Ayat eno. Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p style="text-align: center;">وقال النبي ﷺ: (مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدَاً دَخَلَ النَّارَ) رواه البخاري.</p> <p>(Yenna atuukibwaako okufa ng'abadde asinza oba asaba ekitali Allah, buterevu wa kuyingira muliro bw'afa nga teyeenenyezza wa Katonda we).</p>

E:5	<b>Abaffe okusaba kusinza?</b>
O:5	<p>Iyye, okusaba kuba kusinsa, Allah yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ [سورة غافر: 60].</p> <p>(Mukama Katonda Omulezi wammwe y’agamba nti: Munsabe nja kubaanukula (okusaba kwamwe): Mazima abo abeekuliza ku kusinza, bagenda kuyingira omuliro Jahannamu nga baswaavu era nga banyoomoofu). Nabbi (s.a.w) y’agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (الدعاء هو العبادة) رواه أحمد . وقال الترمذی : حسن صحيح.</p> <p>(Okusaba kusinza nakwo).</p>
E:6	<b>Abaffe abantu abafu muntaana zabwe bawulira okusaba kw’abantu nga babasaba era nga babakoowoola?</b>
O:6	<p>Nedda, abafu tebawulira kusaba kw’abantu, era ababasaba bakikola munsobi. Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ [سورة النمل: 80].</p> <p>قال تعالى: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ [سورة فاطر: 22].</p> <p>(Mazima gwe toyinza kuwuliza bafu) (Toli ggwe (Nabbi Muhammadi) wa kuwuliza abo abali mu ntaana okugyako Allah nga Ayagadde).</p>

E:7	<p><b>Abaffe kikkirizibwa okusaba okutaasibwa n’obuyambi eri abafu naabo abataliwo?</b></p>
O:7	<p>Nedda, tetukkirizibwa kubasaba buyambi wadde okutaasibwa gye bali, Allah y’agamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْواتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾﴾ [سورة النحل : 21/20].</p> <p>N’abo abasaba ebyo ebitali Katonda (Ebyo bye basaba) tebiyinza kutonda kintu kyonna, nabyo byatondebwa butondebwa bifu, ssi .(bilamu. Era tebamanyi ddi lwe balizuukizibwa</p> <p>قال تعالى: ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ ﴿٩﴾﴾ [سورة الانفال:9].</p> <p>(Jjukira mu kiseera bwe mwakoowoola Omutonzi wammwe okubadduukirira N’abaaanukula). Ate Nabbi (s.a.w) yasabanga mu dduwa ze ng’agamba nti:</p> <p>كان من أدعيته ﷺ: (يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) حسن رواه الترمذي.</p> <p>(Owange (Allah) Omulamu, Eyeeyimirizaawo era Ayimiridde okulabirira ebitonde (Aliwo emirembe ne mirembe), okusaasira kwo kwempajagira).</p>

E:8	<p><b>Kikkirizibwa okusaba obuyambi ekintu kyonna nga ssi Allah Omutonzi owa waggulu?</b></p>
O:8	<p>Nedda, tekikkirizibwa, Allah Yatugamba:  قال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [سورة الفاتحة : 5].  (Ggwe wekka gwe tusinza, era Ggwe wekka Gwe tusaba obuyambi). N'ekigambo kya Nabbi (s.a.w) ekigamba:  وقول النبي ﷺ: (إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ) حَسَنٌ صحيح رواه الترمذي.  (Bw'osabanga sabanga Allah Yekka, bw'oba nekyoyagala okukuyamba, saba Allah).</p>

E:9	<p><b>Abaffe, tukkirizibwa okweyambisa abantu abalamu ne babeerako kyebatuyamba?</b></p>
O:9	<p>Iyye, kituufu basobola okutuyamba, naye mw'ebyo bye bayinako obusobozi, gamba nga mukwaano gwo okukuwola sente nga azirina n'ebiringa ebyo, amakulu ebintu ebimanyikiddwa, naye okukoowoola abafu, nokugenda ewa basamize n'abaeranga ku mativvi ne ku radiyo nti bagaba emikisa oba obugagga oba nti bakujjako ebisiraani, bino bikolwa bikyaamu, kubanga ebyo bisabibwa Alla Yekka. Wabula mukwaano gwo okukuwa sukaali, omunnyo oba okukuwola ekintu kyonna ng'akirina, tekirina buzibu, era kiba munkolagana ennungi Allah gye yayogerako nti:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [سورة المائدة: 2].</p> <p><b>(Muyambaganenga mu kukola bulungi n'okutya Katonda). Ate Nabbi (s.a.w) y'agamba:</b></p> <p>وقال رسول الله ﷺ: (والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) رواه مسلم.</p> <p>(Allah ayamba omuddu we, ebbanga ly'amala nga naye abeereddewo munne).</p>

E:10	<b>Abaffe, Kikkirizibwa okweyama ku lw'ekintu kyonna nga si Allah?</b>
O:10	<p>Nedda, tekikkirizibwa kweyama okugyako eri Allah Yekka, Allah Y'agamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾ [سورة ال عمران: 35]</p> <p>Ayi Mukama wange! Nneeyamye ku Lulwo ekyo ekiri mu lubuto lwange kibeere nga kiri ku Lulwo). N'ekigambo kya Nabbi (s.a.w) ekigamba:</p> <p>وقول النبي ﷺ: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِيعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعِصِهِ) رواه البخاري.</p> <p>(Yenna eyeeyama okugondera Allah, akikole, ate eyeeyema okumugyeemera, takikolanga akireke).</p>
E:11	<b>Abaffe kikkirizibwa okusala ekisolo ku lw'ekintu kyonna nga si Allah?</b>
O:11	<p>Nedda, tekikkirizibwa kusala kisolo kyonna okujjako nga kisalibwa ku lwa Allah, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ﴾ [سورة الكوثر: 2].</p> <p>(saala esswala ku lwa Mukama Katonda wo, era osale (ebisolo ku lwa Mukamawo).</p> <p>Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (لعن الله من ذبح لغير الله) رواه مسلم.</p> <p>(Yagoba mu kusaasira kwe Allah yenna asala ekisolo ku lw'ekitali Ye)</p>

E:12	<p><b>Kikkirizibwa okwetooloola amalaalo g'entaana olw'okusembera gyegali oba okufuna obulungi bwonna?</b></p>
O:12	<p>Nedda, tetwetooloola kintu kyonna okujjako Kaaba ya Allah eri e Makkah, Allah yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ {سورة الحج : 29}.</p> <p>(Era betooloole Ennyumba Enkadde (Al-Kaaba).</p> <p>Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ) صحيح رواه ابن ماجة.</p> <p>(Yenna eyetooloola Kaaba emirundi musanvu, n'asaala Raaka bbiri , afuna empeera nga ezooyo atadde omuddu omu).</p>
E:13	<p><b>Eddogo liramulwa litya mu busiraamu?</b></p>
O:13	<p>Eddogo liri mu bikolwa eby'obukaafiiri, era omuntu alikola taba musiraamu mpozzi nga yenenyezza, Allah Y'agamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ الشَّيَاطِينِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ﴾ {سورة البقرة : 102}.</p> <p>(Naye sitaane ze zaakaafuwala, zezaayigiriza) Abayudaayaeddogo). Ayat eno Allah Yali Azzaayo okuwaayirizakw'abayudaaya eri Sulaimaani nti yakolanga eddogo, atenga eddogo bukaafiiri, Allah n'atutegeeza nti Sitaanizezaakolanga eddogo. Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله والسحر... ) رواه مسلم.</p> <p>(Mwewale amazambi omusanvu agazikiriza: Okugatta ku Allah nekintu ekirala (okukola Shiriki), Eddogo...).</p>



E:14	Abaffe tukakasa Abalaguzi nti bamanyi ebyekweese?
O:14	<p>Tetukkirizibwa kubakakasa, olw'ekigambo kya Allah ekigamba:</p> <p>لقوله تعالى: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ﴾ [سورة النمل: 65].</p> <p>(Bagambe (Ggwe Muhammadi) nti: Tewali amanyi Byekweese mu ggulu ne munyi okugyako Katonda; era tebamanyi kiseera ki lwe balizuukira. Ate Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد ﷺ). رواه أبو داود.</p> <p>(Omuntu yenna agenda e w'omulaguzi, nakkiriza bya mugambye nti mazima, aba awakanyizza obubaka bwonna obwassibwa ku Muhammadi).</p>

E:15	<p><b>Waliyo amanyi ebyeewala ebitalabikako oba ebyekweesa, gamba nga okumanya ebinaabaawo mu maaso?</b></p>
O:15	<p>Nedda, tewali n'omu abimanyi, okugyako Allah gwe Yamanyisaako ebimu mu ba Nabbi (Ababaka) Be, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ﴾ [سورة الجن: 26].</p> <p>(Katonda yekka y'Amanyi Eby'ewala Ebitalabikako, tewali n'omu gw'abikkulirako okugyako oyo gwaaba asiimye mu Babaka be). Nabbi (s.a.w) y'agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (لا يعلم الغيب إلا الله) حسن رواه الطبراني.</p> <p>(Tewali amanyi byekweese ebitalabikako okugyako Allah).</p>

E:16	<p>Abaffe, tukkirizibwa okwambala eyirizi okugeza nga akakomo oba ebituttwa mu biwato ne kumikono oba ekifo kyonna, olw'okunoonya obujjanjabi oba okuwona endwadde ez'ejawulo.?</p>
O:16	<p>Nedda, tetukkirizibwa ku byambala, olw'ekigambo kya Allah ekigamba:</p> <p>لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [سورة الانعام: 17].</p> <p>(Bw'aba Allah Asazeewo obuzibu bwonna okukutuukako, tewali ayinza kubugyawo okugyako Ye...)</p> <p>N'ekigambo kya Nabbi (s.a.w) ng'agamba omu ku baswahaba eyali yeesibye akakomo ng'akakkiririzaamu nti kawonya emu ku ndwadde ezaali zikwaata abasajja:</p> <p>وقول النبي ﷺ لأحد الصحابة حينما رآه واضعا حرزا في يده فأمره بنزعه قائلا: (انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنًا؛ فإنك لو مُتَّ وهي عليك ما أفلحت أبدًا) صحيح رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.</p> <p>(Mazima ako k'oyambadde tekalina ky'ekakwongerako okugyako bulwadde nabunafu, era ka ggyeeko mangu ku mukono gwo; kubanga singa okufa kukutuukako nga oli mu mbeera eyo, toliwona wadde okwesiima nakamu).</p>

E:17	<p><b>Tukkirizibwa okusiba eyirizi okugeza nga ebituttwa ku bisolo oba ku bifo ebirala byonna olw’okutangira ebiiso ebibi eby’abantu?</b></p>
O:17	<p>Nedda, tetukkirizibwa kukikola ekyo, olw’ekigambo kya Alaah ekigamba:</p> <p>ولقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ [سورة يونس 107].</p> <p>(Bw’aba Allah Asazeewo obuzibu bwonna okukutuukako, tewali ayinza kubugyawo okugyako Ye...) Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (من علق تميمة فقد أشرك) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Yenna asiba eyirizi ng’agikkiririzaamu nti erina obulungi bw’ereeta mu kifo kyonna oba nti etangira ekibi kyonna, aba agasse ku Allah n’ekintu ekirala).</p>

E:18	<p><b>Abaffe, kiramulwa kitya okukozesa oba okukolera ku ssemateeka akolebwa abantu (constitutions) oba amateeka gonna nga si mateeka ga Ddiini busiraamu?</b></p>
O:18	<p>Okukolera ku ssemateeka oyo, nannyini kukola kino aba ava mu busiraamu kasita akakasa mu mutima gwe nti ssemateeka ono asinga (oba yenkana) ennamula y’Obusiraamu Oba nti enteekateeka y’ennamula y’Obusiraamu tetuukagana na kyasa kino ekyabiri! Oba nti enteekateeka y’Obusiraamu y’ensonga evaako Abasiraamu okusigalira emabega. Oba nti enteekateeka y’Obusiraamu ekoma ku nkolagana y’omuntu ne Katonda we naye tegwanidde kuyingizibwa mu mbeera z’obulamu ezisigadde (ng’ez’ebyobufuzi, eby’enfuna, obulamuzi obufumbo, n’ebiringa ebyo. Kunsonga eno Allah y’agamba: <b>كذلك قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [سورة المائدة 44:.</b></p> <p>(N’omuntu atalamuzaa n’ebyo Katonda bye Yassa; nabo be bawakanyi (abatakkiriza) abamenyi b’amateeka). Nabbi (s.a.w) yagamba: <b>قال ﷺ: (وما لم تحكم أممتهم بكتاب الله ويتخبروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم) حسن رواه ابن ماجه وغيره.</b></p> <p>(Ebbanga abakulembeze babwe lye banaamala nga tebalamuza kitabo kya Allah nga balondamu ebimu ebirala nebabireka, okugyako Allah ng’ateekawo wakati wabwe bokka na bokka obulabe).</p>

E:19	<p><b>Tuzzaayo tutya ekibuuzo Sitaani ky'eyinza okukuleetera nga ekulabankanya nti: ani yatonda Allah?</b></p>
O:19	<p>Sitaane bwe buzaabuza omu mu mmwe n'ekibuuzo ekyo, asabenga Allah Akimukingirize, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [سورة فصلت: 36].</p> <p>Naye bwe kibanga kikulabankanyizza (Ggwe) okuva eri Sitaane) ekirabankanya (kyonna, amangu ago) weekingirize ne Katonda (ogambe nti: Audhu Billahi Minash-Shaitaani Rajiim). Mazima Ye Awulira, Amani). Ate Nabbi (s.a.w) y'atuyigiriza okulwanyisa :okulabankanya kwa Sitaane nti tusomenga edduwa eno</p> <p>علمنا النبي ﷺ إذا جاء السواس من الشيطان أن نقول: (آمنت بالله ، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد) ثم لِيَتَّقُلْ عن يَسَارِهِ ثلاثاً وَلِيَسْتَعِذَّ من الشيطان ولينته، فإن ورسوله، الله أحد، الله الصمد ذلك يذهب عنه) وهذه خلاصة الأحاديث الصحيحة الواردة في البخاري ومسلم أحمد وأبي دواد.</p> <p>“Amantu Billah, Lamyalidi wawalamyuulad, walam yakunlahu kufuwan ahadun”. (Nzikirizza Allah n'omubaka we, Katonda ayeesigamirwa, Tazaalibwa, era tewali kyenkana Naye n'ekimu). Oluvannyuma afujja ku ludda lwe olwa kkono emirundi esatu, oluvannyma yekingiriza sitaane obubi bwe, ekyo ekimujjira mu birowoozo kiba kijja kugenda.</p>
E:20	<p><b>Bubi ki obuva mu kukola shiriki omunene gamba nga obusamize?</b></p>
O:20	<p>Shiriki omunene aviirako omuntu okuyingira omuliro lubeerera na lubeerera ku lunaku lwenkomerero. Nabbi (S.A.W) Y'agamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (من لقي الله يشرك به شيئاً دخل النار) رواه مسلم.</p> <p>(Yenna an'asisinkana Allah nga yamugattako n'ekintu ekirala, ajjakuyingira omuliro), Tusaba Allah Atutaase.</p>

E:21	<p><b>Abaffe, omuntu ayinza okuganyurwa mu mirimu gye emirungi gy'akola ng'ate bwakola ne shiriki?</b></p>
O:21	<p>Nedda, emirimu emirungi tagifunamu kalungi wadde nakamu ebbanga ly'amala ng'akola Shiriki, olw'ekigambo kya Allah ng'Atunyumiriza ku Bannabbi ekigamba:</p> <p>يقول الله تعالى عن الأنبياء: ﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الانعام 88].</p> <p>(Singa baagatta ku Katonda ekintu ekirala, byandibonoonekedde ebyo (byonna) bye baali bakola). Nabbi (s.a.w) yagamba nti Allah Yagamba: قال النبي ﷺ في الحديث القدسي: ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك ، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) رواه مسلم.</p> <p>(Nze ndi mugagga sirina bwetaavu bwa kungattako wadde obwegassibwonna, oyo yenna akola omulimu nangattako mugwo ekintu ekirala kyonna ngumulekera nekyo kyabangasseeko...).</p>

## SHIRIKI OMUTONO

**E:1 Shiriki omutono y'aliwa?**

**O:1** Shiriki omutono ye Kabandabe, Allah Y'agamba:

قال تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ [سورة الكهف 110].

(N'omuntu (yenna) asuubira okusisinkana Mukama we, atekwa akole emirimu emirongoofu, era tagattanga mu kuzinza Mukama we ekintu kyonna). Nabbi (s.a.w) yagamba:

قال النبي ﷺ: (إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ) صحيح رواه أحمد.

(Mazima ekisinga okutiibwa era kyensinga okubatiisa gye muli ye Shiriki omutono, okugeza nga kabandabe). Era ne mu Shiriki omutono ky'ekigambo ky'omusajja oba omukyala ekigamba:

ومن صور الشرك الأصغر قول الرجل أو المرأة: (لولا الله وفلان أو ما شاء الله وشتت).

(Singa tabadde Allah ne gundi, oba Allah Bw'anaaba Ayagadde naawe n'oyagala). Nabbi (s.a.w) yagamba:

قال النبي ﷺ: (لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله، ثم شاء فلان).

(Temugambanga nti Allah bw'anaaba Ayagadde ne gundi n'ayagala, wabula mugambenga: Allah bw'anaaba Ayagadde oluvannyuma ne gundi n'ayagala).



E:2	<b>Abaffe, Kikkirizibwa okulayira ekitali Allah?</b>
O:2	<p>Tekikkirizibwa kulayira ekintu kyonna ekitali Allah, Allah Yagamba: قال تعالى: ﴿قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ [سورة التغابن: 7].</p> <p>Ndayidde Mukama Katonda wange ddala mazima mugenda) kuzuukizibwa). Ayati eno eraga nti Allah ya layirwa ku buli nsonga yonna, na bwe kityo Yalagira Nabbi we alayire Ye Yekka kunsonga :y'okuzuukira. Nabbi (s.a.w) yagamba قال النبي ﷺ: (من حلف بغير الله فقد أشرك) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Yenna alayira ekitali Allah aba akoze shiriki). Era Nabbi (s.a.w n'agamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ) متفق عليه.</p> <p>(Omuntu yenna alayira, alayirenga Allah oba asirike talayira).</p>
<p><b>OKUYITA MU KINTU NG'OSABA N'OKUSABA</b></p> <p><b>OKUWOLEREZEBWA</b></p>	
E:1	<b>Makubo ki getuyitamu bwe tuba tusembera eri Allah?</b>
O:1	Okusembera eri Allah kwa miteeko ebiri, ogukkirizibwa n'ogutakkirizibwa.
(1):	<p>Ogwa kkirizibwa era ogulina okukolebwa kwe kusembera ewaAllah n'amannya n'ebitendo bye, n'okukola emirimu emirungi. Allah Yagamaba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾ [سورة الأعراف: 180].</p>

(Ne Katonda Alina Amannya amalungi, Kale mugamusabise (nga musembera gyaali). Era Allah Yagamba:

قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ﴾ [سورة المائدة: 35].

(Abange mmwe abakkiriza! Mutye Katonda, era munoonye ekkubo erituuka gy'Ali, (musembere gy'Ali nga mu mugondera n'okukola By'Asiima). Nabbi (s.a.w) yagambanganga ng'asaba edduwa:

كان من أدعيته ﷺ: (أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ) صحيح رواه أحمد.

(Nkusaba Allah nga nkozesa buli linnya eriryo

(2): Ogwa gaanibwa: Kwe kusaba abantu abafu mbunno bakutuuse edduwayo oba okusaba kwo ewa Katonda nga abasinga obungi bwe bakola ebiseera bino. Allah Yagamba:

قال تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة يونس: 106].

(Era tosabanga ekyo ekitali Katonda - Ekyo ekitakugasa era ekitakuletera kabi, (wadde akalungi) bw'onooba nga okikoze ekyo mazima ggwe ojja kuba ow'omu balyazaamaanyi).

Naye ate okusembera ewa Allah n'ekitiibwa kya Nabbi (s.a.w) nga abamu bwe bakola nga batuuse e Madiinah, oba mu mbeera yonna, nga okugamba nti: owange Katonda wange nkusaba nga nkozesa ekitiibwa kya Nabbi (s.a.w) omponye obulwadde. Bino byonna biba tebikkirizibwa era kuba kugunja mu ddiini; kubanga Baswahaba ba Nabbi (s.a.w) tebakikolangako.

	<p>Ekirala Umar bun khattwaab yasaba Abbasi bun Abdul Mutwalib nga mulamu abasabire edduwa enkuba etonnye, nga Nabbi (s.a.w) bwe yakikolanga ng'akyaali mulamu; kubanga tewali swahaba yasaba Nabbi (s.a.w) nga amaze okufa kintu nakimu, era abakola kino ku mulembe guno baba bakyaamu, era kino kiviirako abantu okukola shiriki nga basaba abantu abafu olw'ensonga nti baali balongoofu, mu mbeera eno nebasaba okubatuusiza ebyetaago byaabwe ewa Katonda. Bino byonna bikyaamu tusaba Allah Abitukingirize.</p>
<p><b>E:2</b></p>	<p><b>Omuntu asaba edduwa, yandyetaaze ekintu ekigituusa ewa Allah?</b></p>
<p><b>O:2</b></p>	<p>Nedda, edduwa teyetaagisa kintu kyonna oba omuntu okugimutuusiza ewa Allah, kunsonga eno Allah Yagamba:</p> <p>ولهذا قال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ﴾ [سورة البقرة 186].</p> <p>(Abaddu Bange bwe baba bakumbuuzizza (bagambe nti) mazima Nze Ndi kumpi (nnyo nabo, setaaga kiyambi n'omu duwa zabwe kuntukako). Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (إنكم تدعون سميعاً قريباً وهو معكم) - أي بعلمه - رواه مسلم.</p> <p>(Mazima mukimanye (Omutonzi) wammwe gwe musaba Awulira era ali kumpi). (Amakulu Ali kumpi na kumanya kwe).</p>

E:3	<p><b>Abaffe kikkirizibwa okusaba Abantu abalamu okukusabira ku dduwa?</b></p>
O:3	<p>Iyye, kikkirizibwa ku balamu bokka atenga batya Allah yekka, wabula si bantu beerenga mu bifo ebyenjwulo nti bo basomi ba dduwa. abo baba balogo nga bakozesa masitaani okubuza abantu nga beeteeka mu bifaananyi ebya basiraamu nga beeyita bamaseeka, n’abafu tekikkirizibwa kubasaba; kubanga tebawulira wadde okwanukula okusaba kwonna. Allah Yagamba ng’alagira Nabbi (s.a.w):</p> <p>قال تعالى آمراً نبيه ﷺ : ﴿وَاسْتَغْفِرْ لِدُنْيِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ [سورة محمد:19].</p> <p>(Era weegayirire (Katonda) Akusonyiwe ekibi kyo era weegayiririre ne ku lw’abakkiriza abasajja n’abakkiriza abakyala).</p> <p>وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي (أن رجلاً ضريراً أتى النبي ﷺ فقال: ادع الله أن يعافيني...).</p> <p>(Ne mu Hadiithi entuufu omusajja yajja ewa Nabb (s.a.w namugamba: Nsabira Allah Amponye..), buno bwonna bujulizi nti kikkirizibwa okusaba abantu abalamu abatya Allah boomanyi okukusabira ku dduwa.</p>

E:4	<b>Kiki Omubaka (s.a.w) ky'avunanyizibwa okukola wakati we ne Allah?</b>
O:4	<p>Ekiri wakati we ne Allah kutuusa bubaka Allah bwe ya mukwaasa, butuuke mu bantu. Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴿٦٧﴾﴾ [سورة المائدة:67].</p> <p>(Owange ggwe Omubaka! Tuusa ebyo ebyassibwa gy'oli nga biva eri Mukama wo). Era Nabbi (s.a.w) yatuukiriza dda omulimu ogwa mukwaasibwa okuva ewa Katonda, awonno mulimu gwaffe okuteeka munkola, tusaba Omutonzi Atukwaatireko.</p>
E:5	<b>Kikkirizibwa okusaba Nabbi (s.a.w) atuwolereze?</b>
O:5	<p>Nedda, wabula tusaba Allah olukusa yekka, Allah yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ﴿٤٤﴾﴾ [سورة الزمر:44].</p> <p>(Bagambe nti: okuwolerezebwa kwonna kwa Allah). Era Nabbi (s.a.w) yasomesa Swahaba bwe yamala okumusabira agambe:</p> <p>قال ﷺ لأحد الصحابة الذي جاءه طالباً منه الشفاعة أن يقول من أذعيتة: (اللهم شفعه في) حسن صحيح رواه الترمذي.</p> <p>(Ayi Allah nkusaba okkirize okusaba n'okuwolereza kwa Nabbi (s.a.w) kwansabidde). Era Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال ﷺ: (إني اختبأتُ دعوتي شفاعة يوم القيامة، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً) رواه مسلم .</p> <p>(Mazima natereka okuwolereza kwange ku buli yenna afa mu kibiina kyange nga teyagatta ku Allah ekintu ekirala mu kunsinza (ataakola shiriki).</p>

E:6	<b>Abaffe, kisoboka okusaba okuwolerezebwa abantu abalamu?</b>
O:6	<p>Kisoboka okubasaba naye mu bintu ebyo kungsi oba munkolagana ya bantu ku bannaabwe, gamba nga okuwolerezebwa mu kkooti mu maaso g'omulamuzi n'embeera endala. Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيمًا ﴿٨٥﴾﴾ [سورة النساء: 85].</p> <p>(Omuntu awolereza okuwolereza okulungi abeera nga alina omugabo mu kwo, n'omuntu awolereza okuwolereza okubi aba nga alina ekibi kyakwo. Katonda Ye Nnannyini Buyinza ku buli kintu). Era Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال ﷺ: (اشفَعُوا تَوْجَرُوا) صحيح رواه أبو دواد.</p> <p>(Muwolereze (mu bulungi), mujja kusalulwa bulungi).</p>

E:7	<b>Kikkirizibwa okusukka ekkomo mu kuwaana Nabbi (s.a.w)?</b>
O:7	<p>Ekyo tekikkirizibwa. Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [سورة الكهف: 110].</p> <p>(Gamba nti: Mazima nze ndi muntu nga mmwe. Watumiddwa gyendi nti ekituufu Omusinzibwa wammwe owa mazima ye Katonda Ali Omu (omutonzi). Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال ﷺ: (لَا تَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ؛ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا: عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ) رواه البخاري.</p> <p>(Temusukkanga ekkomo mu kuntenda nga abakristaayo bwe baasukka ekkomo mu kuwaana n'okutenda Isa Mutabani wa Mariyamu (Yesu): Mazima nze ndi muddu mumpitenga Omuddu wa Allah n'omubaka we).</p>

## OLUTALO LW'EDDIINI, WALAA N'OKULAMULA

E:1 **Olutalo lw'eddiini lulamulwa lutya mu busiraamu?**

O:1 Olutalo lw'eddiini lwatteeka, era omuntu asobola okukozesa eby'obugagga bye oba ye mwennyini neyetaaba mu lutalo oba n'asomesa abantu n'olulimi lwe obusiraamu, Allah Yagamba:

قال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [سورة التوبة: 41].

(Mugende mu bwangu ne mu buzito, mulwane, era mulafuubane n'emmaali yammwe n'emyoyo gyammwe mu kkubo lya Katonda). Ne Nabbi (s.a.w) yagamba:

وقال ﷺ: (جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ). رواه أبو داود.

(Mulwaanise abashiriku n'emmaali yammwe n'emyoyo gyammwe n'ennimi zammwe).

N.B: Akatalekeka, Olutalo lw'eddiini okubaawo lulina obukwakkulizo obulina okubeerawo, kitegeeza bwe buba tebuddeewo, omuntu teyetantala mbu agenda mu lutalo.

1. Lulina kubeera wansi wa mukulembeze wa busiraamu akulira ensi y'obusiraamu nga bwe kyaali ku mulembe gwa Nabbi (S.A.W). Kitegeeza abantu abetulisaako bbomu n'abaawukana ku bukulembeze bwe ggwanga bakola kikyamu.

2. Abazadde balina okukkiriza, ate olutalo lwe ddiini lubeerawo nga ensi yo busiraamu ye rwaanako, wabula si kulumba bantu bali mu mirembe gyaabwe. Ebigambo biwerako ebyogerwa ku mulamwa guno, wabula katukome ku bino.



E:2	<b>Walaa ky'ekki?</b>
O:2	<p>Kwe kwagala n'okutaasa Allah Yagamba:  قال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ [سورة التوبة: 71].  (N'abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakazi, bo mikwanogya bannaabwe). Nabbi (s.a.w) yagamba:  وقال ﷺ: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا) روا مسلم.  (Omukkiriza ku mukkiriza munne baling omuzimbo ogwekutte awamu).</p>
E:3	<b>Abaffe, kikkirizibwa okufuula Abatali basiraamu emikwaano gyaffe?</b>
O:3	<p>Tekikkirizibwa kufuula batali basiraamu mikwaano gyo, okujjako munkolagana y'ebymirimu, naye okusembeza enzikiriza yabwe kikyamu, Allah Yagamba:  قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ [سورة المائدة: 51].  (N'omuntu abakwaana mu mmwe mazima ye abeera wa mu bo).</p>

E:4	<b>Waliyyu (Omwagalwa wa Allah) yaani?</b>
O:4	<p>Ye Mukkiriza atya Katonda we ng'amwawula mu kumusinza, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٦٢﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٦٣﴾﴾ [سورة يونس: 62/63].</p> <p>(Abange mazima abaagalwa ba Katonda tebalina bo kutya, era tebali bo bakunakuwala. Abo abakkiriza ne baba nga batya Katonda). Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال ﷺ: (إِنَّمَا وَلِيِّي اللَّهِ وَصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ..) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Mazima Omwagalwa wa Allah ye mulongoofu ate nga mukkiriza).</p>
E:5	<b>Balamuzaaki Abasiraamu?</b>
O:5	<p>Balamuza Qurani ne Hadiithi Entuufu eza Nabbi (s.a.w). Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَأَنَّ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴿٤٩﴾﴾ [سورة المائدة: 49].</p> <p>(Oteekwa olamule wakati waabwe nebyo Katonda bye Yassa). Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال ﷺ: (عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ) رواه مسلم.</p> <p>(Ye Muamanyi w'ebitalabikako nebirabikako, era Gwe Alamula wakati wa Baddu bo).</p>

## OKUKOLERA KU QURANI NE HADIITHI

<b>E:1</b>	<b>Lwaki Allah Yassa Ekitabo Qurani?</b>
<b>O:1</b>	<p>Allah Yassa Ekitabo Qurani Abantu bakikolereko, Allah Yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ﴾ [سورة الاعراف: 3].</p> <p>Mugoberere ebyo ebyassibwa gye muli nga biva eri Omulezi wammwe). Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قال ﷺ: (اقْرءُوا الْقُرْآنَ وَأَعْمَلُوا بِهِ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Musome Qurani era mugikolereko, naye temugifuula ekyokulya).</p>
<b>E:2</b>	<b>Okukolera ku Hadiithi Entuufu kilamulwa kitya?</b>
<b>O:2</b>	<p>Kyatteeka eri buli musiraamu okukolera ku Hadiithi Entuufu, olw'ekigambo kya Allah ekigamba:</p> <p style="text-align: center;">قال تعالى: ﴿وَمَا تَأْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [سورة الحشر: 7].</p> <p>(N'ekyo kyonna omubaka (ky'abaleetera oba ky'abawa), mukitwalenga N'ekyo ky'abagaananga, mukirekengayo (mukyewalenga). Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p style="text-align: center;">قال ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Mwekwaate ku sunnah zange (Enkola yange) ne sunna z'abaswahaba abaaasikira Nabbi (s.a.w) Abalungi era Abalunngamu).</p>

E:3	<p><b>Abaffe, kisoboka okuleka Hadiithi za Nabbi (s.a.w) ne tukolera ku Qurani yokka?</b></p>
O:3	<p>Nedda tekisoboka, wabula byonna tubikolerako nga tusooka Qurani ne tuddako Hadiithi, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [سورة النحل: 44].</p> <p>(Era Twassa gy’oli Eky’okujjukiza (Qurani) olyoke onnyonnyole abantu ekyo ekyassibwa gye bali). Era Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال ﷺ: (ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه) صحيح رواه أبو دواد وغيره.</p> <p>(Era naweebwa Ekitabo Qurani, era n’empeebwa n’obubaka obulala nga ze Hadiithi ezinnyonyola Qurani).</p>

E:4	<p><b>Abaffe, kisoboka okusoosa ekigambo kyonna nga si kya Allah oba Omubaka We?</b></p>
O:4	<p>Nedda, tekikirizibwa ekyo kusoosa kigambo kyonna ku kigambo kya Allah oba Omubaka We. Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [سورة الحجرات 1].</p> <p>(Abange mmwe abakkiriza! (Temweyitirizanga) ne mwekulembezenga mu maaso ga Katonda n'omubaka We). Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال ﷺ: (لا طاعةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) صحيح رواه الطبراني.</p> <p>(tekikirizibwa kugondera kitonde kyonna mu mbeera ey'okugyeemera Allah). Swahaba Ibun Abbasi Allah Yasiima ku ye, yagamba nga omusajja eyali akulembeza ekigambo kya Nabbi (s.a.w) ku kikyeye:</p> <p>وقال ابن عباس رضي الله عنهما عن الرجل الذي قدّم قول أبي بكر رضي الله عنه على قول الرسول ﷺ: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول ﷺ: وتقولون: قال أبو بكر و عمر).</p> <p>(Mbatiiisa oguyinja ogunene okuva waggulu ne gubakuba, mbagamba Omubaka wa Allah yagamba, ate mmwe munngamba mbunno Abubakari agambye!!</p>

E:5	Tukola tutya bwe tuba twawukanye oba nga tufunye obutaknya munsonga yonna?
O:5	<p>Tuzza ensonga zaffe eri ekitabو kya Allah ne Hadiithi Entuufu eza Nabbi (s.a.w), Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَارَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ [سورة النساء: 59].</p> <p>(Bwe mubanga mukaayanye mu kintu , mukizzenga eri Katonda n’Omubaka We, bwe mubeera nga mukkiriza Katonda n’Olunaku Lw’enkomerero: Ekyo kye kirungi era ge magoba agasinga obulungi).</p> <p>Ate Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>وقال النبي ﷺ: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها) صحيح رواه أحمد.</p> <p>(Mwekwaate ku sunnah zange (Enkola yangae) ne sunna z’abaswahaba abaasikira Nabbi (s.a.w) Abalungi era Abalunngamu).</p>

E:6	<p><b>Oyagala otya Allah n’Omubaka We?</b></p>
O:6	<p>Obagala Ababiri na kubagondera n’okuteeka munkola ebiragiro byabwe, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [سورة آل عمران: 31].</p> <p>(Gamba (Abantu, Ggwe Muhammadi) nt: Bwe muba mwagala Katonda, mungoberere; olwo Katonda abaagale era abasonyiwe ebibi byammwe. Ne Katonda Musonyiyi, Musaasizi). Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبَّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) متفق عليه.</p> <p>(Taba mukkiriza omu mmwe okujjako nga nze (Nabbi s.a.w) gwakulembeza okwagala ku muzaddewe, n’omwaanawe n’ebitonde byonna).</p>

E:7	<p><b>Abaffe kisoboka okwekwaasa Kadari (okugera kwa Allah) ne tulekayo okukola emirimu emirungi oba egyetteeka?</b></p>
O:7	<p>Tekikkirizibwa Ekyo, olw'ekigambo kya Allah ekigamba:  قال تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾ فَسَنِيَرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾﴾  [سورة الليل: 5-6-7].</p> <p>(Mazima oyo awaayo (emmaali ye mu kkubo lya Katonda), n'atya Katonda (mu bigambo ne mu bikolwa. N'akkiriza obulungi (nga akakasa ekigambo ky'okwawula Katonda. Tugenda kumwanguyiza eri obwangu (olw'okukola emirimu Katonda Omugulumivu gy'asiima). Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (اعملوا فكل ميسر لما خلق له) رواه البخاري ومسلم.</p> <p>(Mukole emirimu emirungi buli omu ayanguyizibwa ekyo Allah kye yamuwandiikako).</p>



## SUNNAH NE BID'A

### (ENKOLA Y'OMUBAKA N'OKUGUNJA MU DDIINI)

E:1	<b>Abaffe mu busiraamu mulimu okugunjaawo enkola (Bid'a) ennungi?</b>
O:1	<p>Mu busiraamu temuliimu kigungibwaawo nga kirungi; kubanga Eddiini y'obusiraamu yajjula dda, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ [سورة المائدة : 3].</p> <p>(Olwaleero Mbajjuliza Eddiini yammwe era ne Mbajjuliza n'enkyengera Kyange, ne Mbasiimira mmwe Obusiraamu okuba Eddiini). N'ekigambo kya Nabbi (s.a.w) ekigamba:</p> <p>وقول النبي ﷺ: (كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) صحيح رواه أحمد وغيره.</p> <p>(Buli kigungibwa mu ddiini kya bubuze, ate buli bubuze bwa mu muliro).</p>
E:2	<b>Okugunja mu ddiini kitegeza ki?</b>
O:2	<p>Kwe kwongeza muyyo oba okukendeeza muyyo, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءَ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ﴾ [سورة الشوري : 21].</p> <p>(Abaffe, balinayo bikiyambi (byaabwe) ebiraalika mu ddiini ekyo Katonda ky'atakkiriza?) Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال النبي ﷺ: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردٌ) متفق عليه.</p> <p>(yenna agunjaawo omulimu gwonna mu ddiini yaffe nga teguliiko njigiriza yaffe (teguli kunkola ya busiraamu), gumuddizibwa.</p>

E:3	<b>Abaffe, mu ddiini y'obusiraamu mulimu sunnah ennungi?</b>
O:3	<p>Iyye kituufu, mu busiraamu mulimu suuna ennungi, era y'eyo sunnah ezzibwa obupya ng'abantu baali baagivaako. Nabbi (s.a.w) yagamba:</p> <p>قال ﷺ: (من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء...) رواه البخاري.</p> <p>(Yenna azza obupya sunna eyali yalekebwa mu busiraamu, اساسulwa empeera ennungi ey'ekyo kyakoze oluvannyuma n'afuna ne kumpeera yabuli atadde munkola sunnah eyo, nga tewali mpeera n'emu ebakendeddeko oba ebajjibwaako).</p>
E:4	<b>Abasiraamu ddi lwe bataasibwa?</b>
O:4	<p>Abasiraamu bataasibwa kasita bateeka munkola Ekitabo kya Katonda Wabwe, ne bekwaata ne ku nkola ya Nabbi (s.a.w), ne basomesa n'enzikiriza entuufu ey'obusiraamu, ne beewala Shiriki(nga obusamize, okusaba bajjajja abafu, okufuna emikisa mu bantu abalenga n'ebirala), nebeeteekerateekera ekyo kye basobola mu maanyi eri abalabe b'obusiraamu, Allah Yagamba:</p> <p>قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾</p> <p>[سورة محمد : 7].</p> <p>(Abange mmwe abakkiriza bwe muba nga mutaasizza eddiini ya Katonda, Naye ajja kubataasa era anyweze ebigere byammwe (ku busiraamu). Era Allah Yagamba:</p> <p>وقال تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴿٥٥﴾﴾ [سورة النور : 55].</p>

(Katonda Yalagaanyisa abo abakkiriza mu mmwe ne bakola obulongoofu nti Agenda kubasigiza mu nsi nga bwe Yasigiza abo (abaaliwo) oluberyeberye lwabwe; era (ddala) agenda kubatebenkereza eddiini yaabwe eyo gye Yabasiimira. Era Agenda kubakyusiriza ddala oluvannyuma lw'okutya kwabwe eddembe: Kale bansinze. Tebangatangako kintu kirala).

Nsaba Omutonzi Ali waggulu Ow'ekittibwa Atunyweeze ku bukkiriza obutuufu obw'eddiini y'obusiraamu, era Atuttire ku kigambo Laa ilaaha ill'Allah, era nsaba Allah Asse okusaasira n'emirembe bibeere ku Nabbi Muhammadi ow'enkomerero mu Bannabbi bonna n'abennyumba ye n'abo bonna aba mugoberera okutuusa ku lunaku lw'okusisinkana Allah.

## **Ebirimu mu Kitabo**

**1- EBBANJA ALLAH LY'ABANJA ABADDUBE.**

**2- SHIRIKI OMUNENE .**

**3-Egimu ku miteeko gya Shiriki Omunene .**

**4-SHIRIKI OMUTONO .**

**5- OKUYITA MU KINTU NG'OSABA N'OKUSABA  
OKUWOLEREZEBWA .**

**6-OLUTALO LW'EDDIINI, WALAA N'OKULAMULA .**

**7-OKUKOLERA KU QURANI NE HADIITHI.**

**8-SUNNAH NE BID'A (ENKOLA Y'OMUBAKA N'OKUGUNJA  
MU DDIINI)**

# خذ عقيدتك من الكتاب والسنة

كتيب يحتوي على أسئلة مهمة في العقيدة، أجاب عنها فضيلة الشيخ محمد جميل زينو رحمه الله، مع ذكر الدليل من القرآن والسنة، ليطمئن القارئ إلى صحة الجواب؛ لأن عقيدة التوحيد هي أساس سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة.

## FUNA ENZIKIRIZAYO ENTUUFU OKUVA MU QURANI NE HADIITHI

Ekitabo kino kirimu ebibuuzo ebikulu mu busiraamu, nga byaddibwaamu Ow'ekitiibwa Sheikh Muhammad Jamil Zeno, Katonda amusaasire, nga ajuliza obujulizi okuva mu Qur'an ne Sunnah; omusomi waffe atebenkere ku butuufu bw'okuddamu; Kubanga enzikiriza y'okwawula Allah mu busiraamu, gw'omusingi gw'okwesiima ky'omuntu mu nsi eno n'enkomerero.

### خذ عقيدتك

الإصدار رقم 52 من سلسلة مطبوعات  
جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة حرملاء

FIRST EDITION

الطبعة الأولى



دمك ٣-٢٧٧٠-٤-٦٠٣-٩٧٨

جمعية الدعوة والإرشاد  
وتوعية الجاليات بمحافظة حرملاء